



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambassade de Suisse au Pakistan

Etat civil au Pakistan et en Afghanistan

Présentation du 28 juin 2019, Genève

**Conférence de l'association suisse des officiers de
l'état civil**



Plan de la présentation

Objectifs:

- Décrire les tâches de l'ambassade à Islamabad
- Sensibiliser l'audience au contexte de l'Afghanistan et du Pakistan

Plan:

1. Introduction
2. Présentation des documents d'état civil
3. Problématiques et risques
4. Tâches de la représentation et collaboration avec les avocats conseils
5. Questions/réponses



1. Introduction

L'Afghanistan et le Pakistan en terme chiffres pour la Suisse (mars 2019)

Pays d'origines Type de résidence	Afghanistan	Pakistan
Personne en procédure d'asile	1710	171
Admissions provisoires	10'117	113
Processus de renvoi en suspens	23	7
Total effectif des personnes dans le processus asile	11'850	291
Population résidente	5650	2664
Population résidente non-permanente	4	25
Total effectif	17'504	2980



Introduction

Les chiffres pour la section de l'état civil en Afghanistan et au Pakistan:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Juin 2019
Afghanistan	51	33	34	61	65	63	84	55
Pakistan	97	100	121	103	134	111	132	74
Autres	3	3	0	4	7	9	9	-
Total	151	136	155	168	206	183	225	129



Introduction

Mentions importantes

- Afghanistan et Pakistan appliquent la Charia notamment dans le droit de la famille
 - Non signataires de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
 - Non signataires de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
-



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambassade de Suisse au Pakistan

2. Présentation des documents d'état civil

Afghanistan



Documents afghans

Birth card





Documents afghans

Birth certificate

Birth Certificate

MINISTRY OF INTERIOR AFFAIRS
DEPUTY OF ADMINISTRATION
General Department of Foreigners Affairs's Research and Population Statistic Registration
Directorate of Census Affair

National ID Details!

- Province: Nangarhar
- City/District: Dehbala
- Area: [REDACTED]
- Zone: [REDACTED]
- House #: ()

Volume # [REDACTED]
Page # [REDACTED]
Reg # [REDACTED]

Birth Registration Card

Name: [REDACTED] Date of Birth: [REDACTED]
Father's Name: [REDACTED] Place of Birth: Nangarhar
G/F Name: [REDACTED] Gender: Female
Mother's Name: [REDACTED]
Father's ID Volume# [REDACTED] Page# [REDACTED] Reg: [REDACTED]

The mentioned Card has Registered in the Page: [REDACTED] No# [REDACTED] Vol: [REDACTED] office of Over Ages Birth Certificate, Directorate of Census Affair, MINISTRY OF INTERIOR AFFAIRS.

Sincerely,
Stamp and Signature of official
Issue Date: 07-Nov-2016

BR Code: [REDACTED]

۱۲/۱۱/۱۷

کارت ثبت تولدات

وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان
معمليت اداري
رياست عمومي بررسي امور خارجيان و ثبت احوال نفوس
رياست امور احصائيه حقيقي

مشخصات ننگره تاريخيت

ولادت: [REDACTED] (ننگر خان)
و نسولي: [REDACTED] (ده بالا)
تاريخه: [REDACTED]
قره پلگر: [REDACTED]
ژوند: [REDACTED]
نمبر خلكه: [REDACTED]

چند: [REDACTED]
صفحه: [REDACTED]
نمبر ثبت: [REDACTED]
تاريخ صدور ننگره: [REDACTED]
نمبر عمومي ننگره: [REDACTED]

کارت ثبت تولدات

اسم: [REDACTED]
لقب: [REDACTED]
و ندر: [REDACTED]
ولديت: [REDACTED]

1. ثبت ننگر و اثار ثبت نفوس [REDACTED]
2. ثبت کارت تولد هذا ځايه د ثبت [REDACTED]
3. صفحه [REDACTED] - شمار [REDACTED] - کتاب سل [REDACTED]
ثبت تولدات پورگ سالان رياست امور احصائيه وزارت امور داخله جمهوري اسلامي افغانستان


شتمت و نسخا بارنده کارت

BR Code [REDACTED]



Documents afghans


Nikah khet





Documents afghans

Nikah khet





Documents afghans

Nikah khet

Marriage Portion: *مهر*

Prompt Marriage Portion: (Mehr Mahjal) *مهر محال*

Installment (Remaining) marriage Portion (Mehr Mowajjal) *مهر مواجل*

Particulars of the Bridegroom's Attorney: *مذکورہ ذیل شہادت: شہرت:*

Name:	نوم:
Family Name:	تخلص:
Father's Name:	پیتا نوم:
Grand Father's Name:	گندگ نوم:
Nationality:	قوم:
Place of Birth:	ذریعہ پیدائش:
Date of Birth:	تاریخ پیدائش:
Residence:	مقام سکونت:

ID Card No: *پاسپورٹ نمائندگی*

1) جس شہادت میں پورا ذکر ہو وہ کسی حال میں قابل قیامی اعتبار نہیں ہو گا۔
2) اگر فریقین کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل عدالت کے پاس ہی ہو گا۔
3) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
4) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
5) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔

Particulars of the British Attorney: *مذکورہ ذیل شہادت:*

Particulars of the witnesses: *شہادت دہندگان*

Witness	First	Second	Third
Name:			
Family Name:			
Father's Name:			
Grand Father's Name:			
Nationality:			
Place of Birth:			
Date of Birth:			
Residence:			


ID Card No: *پاسپورٹ نمائندگی*

1) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
2) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
3) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
4) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔
5) اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور اس کے تحت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔



Documents afghans

Nikah khet





Documents pakistanais

Birth certificate

حکومت پنجاب پاکستان
GOVERNMENT OF THE PUNJAB PAKISTAN
اندرجان پیدائش سرٹیفکیٹ
Birth Registration Certificate

Form No. [REDACTED]

CRMS No: [REDACTED]
OLD/M REG #: [REDACTED]

Child's Details / بچے کے تفصیلات

Name: [REDACTED] جنم نام: [REDACTED]
Date of Birth: 02-February-1974 جنم تاریخ: 02-February-1974
Gender: Female جنس: عورت
Religion: ISLAM مذہب: اسلام
District of Birth: LAHORE پیدائش کا ضلع: لاہور

Parental Information / والدین کی معلومات

Father's Name: [REDACTED] والد کا نام: [REDACTED]
Nationality: Pakistani قومیت: پاکستانی
CNIC No: [REDACTED] شناختی کارڈ نمبر: [REDACTED]
Mother's Name: [REDACTED] ماں کا نام: [REDACTED]
Nationality: Pakistani قومیت: پاکستانی
CNIC No: [REDACTED] شناختی کارڈ نمبر: [REDACTED]
Grand Father's Name: [REDACTED] دادا کا نام: [REDACTED]
CNIC No: [REDACTED] شناختی کارڈ نمبر: [REDACTED]

Address / پتہ

Address: [REDACTED] پتہ: [REDACTED]
LAHORE, لاہور
Tehsil: LAHORE CITY تحصیل: لاہور
District: LAHORE ضلع: لاہور

Applicant's Details / درخواست دہندہ کے تفصیلات

Name: [REDACTED] نام: [REDACTED]
CNIC No: [REDACTED] شناختی کارڈ نمبر: [REDACTED]
Relation of Child: [REDACTED] بچے کا تعلق: [REDACTED]
Entry Date: 17-April-2017 جنم تاریخ: 17-April-2017
Issue Date: 17-April-2017 جنم تاریخ: 17-April-2017
Entry Status: Late پیدائش کی اطلاع: تاخیر

Attested
RASHID AHMAD
Protocol Officer
Ministry of Foreign Affairs
Camp Office, Lahore.

24 APR 2017

Secretary
Union Council
No.260, Maraka, Lahore

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
NAZARAT ISLAH-O-IRSHAD RISHTA NATA
SADR ANJUMAN AHMADIYYA PAKISTAN
RABWAH

Phone: +92-47-421276
+92-47-6212477
Fax: +92-47-4212398
E-mail: nazarat.rishta.nata@sapkh.org

Registration No. [REDACTED]
Dated: 02-03-2016
Dated: 25-09-1984

MARRIAGE CERTIFICATE

This is to Certify that Nihah (Marriage) Ceremony of [REDACTED]

D/o [REDACTED]
resident of SHORKOT CITY
DISTT JHANG PAKISTAN

was solemnized with [REDACTED]
S/o [REDACTED]
resident of [REDACTED]
DISTT JHANG PAKISTAN

on 21 SEP 1984 at SHORKOT CITY

Dower money was fixed Rs. 10,000
(TEN THOUSAND PAKISTANI RUPEE) ONLY.

NAZIR ISLAH-O-IRSHAD RISHTA NATA
SADR ANJUMAN AHMADIYYA PAKISTAN
RABWAH



Documents pakistanais

Marriage certificates

سرکاری پاکستان
THE GOVT OF PUNJAB PAKISTAN
اندرج کر کے شادی سرٹیفکیٹ
Marriage Registration Certificate

FORM No. [REDACTED]

REGISTRATION No. [REDACTED]

Particulars of Groom (گroom کے بارے میں)

Name: [REDACTED]
Nationality: Pakistani
Religion: Muslim
Age: [REDACTED]
Date of Birth: [REDACTED]
Address: [REDACTED]

Particulars of Bride (بride کے بارے میں)

Name: [REDACTED]
Nationality: Pakistani
Religion: Muslim
Age: [REDACTED]
Date of Birth: [REDACTED]
Address: [REDACTED]

Marriage Date: 02 February 2016
Marriage Solemnized at: [REDACTED]
Marriage Solemnized before: [REDACTED]

02 March 2017
22 March 2017

Secretary
LIC-60, CHAZI ABAD
Gaz. Bhatti Town Lahore

بسم الله الرحمن الرحيم
NAZARAT ISLAH-O-IRSHAD RISHTA NATA
SADR ANJUMAN AHMADIYYA PAKISTAN
RABWAH

Phone: +92-47-4214376
+92-47-4212477
Fax: +92-47-4212398
E-mail: nazarat.rishta.nata@anapk.org

Registration No. [REDACTED]
Dated: 02-03-2016
Dated: 25-09-1984

MARRIAGE CERTIFICATE

This is to Certify that Nikah (Marriage) Ceremony of [REDACTED]

D/o [REDACTED]
resident of SHORKOT CITY
DISTT JHANG PAKISTAN

was solemnized with [REDACTED]

S/o [REDACTED]
resident of DISTT JHANG PAKISTAN

on 21 SEP 1984 at SHORKOT CITY

Dower money was fixed Rs. 10,000
(TEN THOUSAND PAKISTANI RUPEE) ONLY.

NAZIR ISLAH-O-IRSHAD RISHTA NATA
SADR ANJUMAN AHMADIYYA PAKISTAN
RABWAH



Documents pakistanais

Nikah nama

قلم نمبر ۲
(دیکھتے قلم نمبر ۱۰۸)

مسلم نامہ نامی قوانین کے آرڈی نیشن بحریہ ۱۹۶۱ء (بشم ۱۹۶۱ء) کے تحت وضع کئے ہوئے قواعد کے
قائدہ نمبر ۱۸ اور نمبر ۱۰ کے تحت مجوزہ

بماعتے دولہا
پیشکش و پیشگی مجوزہ
نکاح نامہ

دارالکرام
عقیدہ راجوان
جمہور آباد
ہون ایف جی کونسل برسر قلعہ آباد
پیشکش و پیشگی مجوزہ

دولہا اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے
سکونت اختیار کرنے والوں کا تفصیلی بیان کو اجزی ۳- دولہا کی ۲۹-04-1984
دولہا اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے
سکونت اختیار کرنے والوں کا تفصیلی بیان کو اجزی
آؤدھن کواری ہے وہ اپنے والدین کے پاس سکونت رکھتی ہے
آؤدھن کی طرف سے کوئی نیک شہرت کا بیان
کیے قرائن کا نام اور پتوں کے سکونت
دولہا کے مکمل کے قرائن کے بارے میں کو اجزی (۱)
کے نام اور پتوں کے سکونت اور اس کی بائیں
آؤدھن کی طرف سے کوئی نیک شہرت کا بیان
کیے قرائن کا نام اور پتوں کے سکونت
دولہا کے مکمل کے بارے میں کو اجزی (۱)
کے نام اور پتوں کے سکونت
شادی کے کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
سکونت

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-

REGISTERED

Serial No. [redacted]
Date 21-07-2015

17

ATTESTED
16 SEP 2015

11- آؤدھن اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے سکونت
دولہا اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے سکونت
عقیدہ راجوان
جمہور آباد
ہون ایف جی کونسل برسر قلعہ آباد
پیشکش و پیشگی مجوزہ
آؤدھن اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے سکونت
دولہا اور اس کے والدین کے نام اور پتوں کے سکونت
آؤدھن کواری ہے وہ اپنے والدین کے پاس سکونت رکھتی ہے
آؤدھن کی طرف سے کوئی نیک شہرت کا بیان
کیے قرائن کا نام اور پتوں کے سکونت
دولہا کے مکمل کے قرائن کے بارے میں کو اجزی (۱)
کے نام اور پتوں کے سکونت اور اس کی بائیں
آؤدھن کی طرف سے کوئی نیک شہرت کا بیان
کیے قرائن کا نام اور پتوں کے سکونت
دولہا کے مکمل کے بارے میں کو اجزی (۱)
کے نام اور پتوں کے سکونت
شادی کے کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
سکونت

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-

شادی کو اجزی کے نام اور پتوں کے سکونت
۲۱-07-2015
۱۰۰,۰۰۰/- صرف
۱۰۰,۰۰۰/-



Documents pakistanais

Christian marriage

Bride/Bridegroom's Copy

The Church of Pakistan 1590 DIOCESE OF KARACHI

1. Certificate of Marriage Solemnized at CHRIST CHURCH District KARACHI
Private Seal
Under Christian Marriage Act, XV of 1872 as adopted by Pakistan
and under Chapter XIV of the Constitution of the Church of Pakistan

2. When Married: Day 14th Month DEC Year 2013

3. PARTICULARS	BRIDEGROOM	BRIDE
a. Christian name of the parties	[REDACTED]	[REDACTED]
b. Surnames	[REDACTED]	[REDACTED]
c. Father's name & surnames	[REDACTED]	[REDACTED]
d. Age	<u>01-12-1992</u>	<u>21-02-1991</u>
e. Condition	<u>BACHELOR</u>	<u>SPINSTER</u>
f. Rank of Profession	[REDACTED]	[REDACTED]
g. Residence at time of Marriage	[REDACTED]	[REDACTED]

4. By Banns or Licence BANNS

5. Signatures or thumb impressions of the parties:

1. [REDACTED] 2. [REDACTED]

6. Signatures or thumb impressions of the witnesses:

1. [REDACTED] 2. [REDACTED]

i. Signature of officiating clergy
ii. Name [REDACTED]
iii. Designation and address PROVOST
CHRIST CHURCH DOWRY
CHRIST CHURCH DOWRY

Note: 1. Wherever Parish Register of Marriages is maintained, authentic original should also be made in that Register.
2. A Copy of the certificate be sent quarterly to the register General Births, Deaths & Marriage (Christians), Karachi. Failure to do so shall render the officiating clergy liable to action by the Diocese and the Register General, Births, Deaths & Marriages, under the Christian Marriage Act, 1872.

26/ 2016 16 5/13

CHURCH CHRISTIAN FELLOWSHIP OF PAKISTAN

شپ آف پاکستان

No. 240

Marriage Solemnized at CHRISTIAN FELLOWSHIP OF PAKISTAN
District Lahore
Date of Marriage 14-12-2016

Particulars	Bridegroom	Bride
Name of Parties	[REDACTED]	[REDACTED]
Father's Name	[REDACTED]	[REDACTED]
Age	[REDACTED]	[REDACTED]
Condition	<u>Bachelor</u>	<u>Spinster</u>
Profession	<u>Private</u>	<u>Teacher</u>
By Banns	[REDACTED]	[REDACTED]
Residence at the time of marriage	[REDACTED]	[REDACTED]
Signature or thumb-impressions of parties	(Left hand) [REDACTED]	(Right hand) [REDACTED]
Signature or thumb-impression of witnesses	[REDACTED]	[REDACTED]

Christian Fellowship of Pakistan -
Assistant Chief of Protocol
Ministry of Foreign Affairs
Camp Office, Lahore.
Date: 29 FEB 2016



Documents pakistanais

- Photographies - Union Councils





Documents pakistanais

- Photographies - Union Councils





Documents pakistanais

- Photographies - Union Councils





Documents pakistanais

- Photographies - Union Councils... parfois plus chaotique





Documents pakistanais

- Photographies - Union Councils





Documents pakistanais


- Photographies – Offices NADRA





Documents pakistanais


- Photographies – Offices NADRA






Documents pakistanais

- Photographies – Système informatique NADRA



2019/1/10





Documents pakistanais

- Photographies – Système informatique NADRA

الذرائع پیدائش سرٹیفکیٹ
Birth Registration Certificate

CRMS No: B346054-07-0214
Form No: 13448710
OLD/M REG #:

Child's Details
Name: ALI RAZA RASOOL
Date of Birth: 26-November-2007
Gender: Male
Religion: ISLAM
District of Birth: SIALKOT

Parental Information
Father's Name: GHULAM RASOOL
Nationality: Pakistani
CNIC No: 27658-6162505-1
Mother's Name: SHAGUFTA RASOOL
Nationality: Pakistani
CNIC No: 34601-5215122-0
Grand Father's Name: FAIZ RASOOL
CNIC No:

Address
Address: P.O. majra kalan, Village MARAHLKO,
Tehsil: SAMBRIAL
District: SIALKOT

Applicant's Details
Name: GHULAM RASOOL
22/03/2016

THE GOVT OF PUNJAB PAKISTAN
MARRIAGE REGISTRATION CERTIFICATE

FORM NO: 13448710

Particulars of Bride
NAME: SHEHNAZ RASHEED
CNIC: 3549875204
FATHER NAME: RASHEED AHMED
ADDRESS: 6272/AMBAWALA, TEH SHEHNAZPUR, DIST SHEHNAZPUR

Particulars of Groom
NAME: ABDUL HAKEEM
CNIC: 3460172467
FATHER NAME: MUHAMMAD HAMEED
ADDRESS: 55/ELAHABAD, TEH SHEHNAZPUR, DIST SHEHNAZPUR

Date of Marriage: 19/03/2015
Marriage Subscribed by Name: SILVI MUHAMMAD-SAGDUL
Marriage Subscribed by CNIC: 34604871203
Date of Entry: 19/04/2015

01/04/2015



Documents pakistanais

- Photographies – Registres pour les documents scolaires





3. Problématiques et risques

Problématiques

- Pression migratoire
 - Fort taux de corruption
 - Application lacunaire des lois et procédures en vigueur
 - Contrôles et gestion insuffisant des registres de l'état civil
 - Traditions et coutumes importantes
 - Phénomène de complaisance
 - Légalisation des Ministères des affaires étrangères sans contrôles ou conséquences légales en cas de fraude
-



Problématiques et risques

Risques

- Mariages et divorces de complaisance / mariage abusifs pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers
 - Mariages forcés ou/et mariages de mineurs
 - Fraude en matière de documents sur l'état civil (âge, nationalité, identité, etc.)
 - Adoptions intrafamilial (pratique du Kafala)
 - Divorces et respect des droits des deux époux
-




4. Tâches de la représentation et collaboration avec les avocats conseils

Principales tâches

1. Fournir des conseils et des renseignements aux clients et autres offices/représentations
 2. Traiter les demandes de regroupement familial
 3. Traiter les demandes de vérification, les vérifications volontaires et les légalisations de document d'état civil
 4. Assister les autorités en Suisse dans les auditions simultanées et test d'ADN
 5. Organiser, coordonner et surveiller le travail des avocats conseils
-



Tâches de la représentation





Collaboration avec les avocats conseils

Notions fondamentales

- Rôle d'intermédiaire de l'ambassade entre les clients, les offices en Suisse et l'avocat conseil
 - Devoir de discrétion et de confidentialité des avocats conseils
 - Obligation d'informer le client si une vérification excède les délais indicatifs
 - Frais d'avocat pour la vérification sont fixes sauf exception
 - Paiement des avocats par l'intermédiaire de l'ambassade
 - Délais de vérification (cas de l'Afghanistan)
-



Collaboration avec les avocats conseils

Déroulement d'une vérification

1. Identification du requérant
 2. Vérification des documents d'état civil dans les registres sources
 3. Confirmation de l'adresse de domicile du requérant
 4. Prise de contact avec le requérant et identification des membres de sa famille
 5. Vérification factuelle
 6. Vérification documents de scolarisation (PAK) et des autres certificats/documents
 7. Finalisation du rapport par l'avocat conseil / recommandations légales
 8. Retour du rapport
-



Collaboration avec les avocats conseils

Particularité de la vérification de document en Afghanistan

- Absence de spécimens de signatures MoFA afghan
 - Note verbale
 - Capacité de traitement limité
 - Envois de documents groupés (10-20 cas)
 - Traitement chronologique des vérifications
 - Situation sécuritaire
 - Délais importants de vérification
-



Collaboration avec les avocats conseils

Traitement des vérifications concernant des réfugiés (discrétion)

Pakistan

- «Accessibilité » des registres pakistanais
- Nature du travail et culture pakistanaise

Afghanistan

- Note verbale reste nécessaire pour vérification de la Tazkira auprès du PRD (ministère de l'intérieur)
 - Culture afghane
 - Obtention des documents d'état civil
-



Collaboration avec les avocats conseils

Protection de l'identité des avocats conseils

- Transmission des rapports anonymes en Suisse
 - Rôle de l'ambassade comme intermédiaire et messenger
 - Contexte de socio-culturel
 - Conditions de sécurité
 - Communauté en Suisse (Afghans et Pakistanais)
 - Risque de conflit d'intérêt entre client et avocat conseil
-